

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾	(اے نبی! کو وحی بھیجی گئی ہے میری طرف
أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ	کہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے
فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا	سو کہا انہوں نے: بلاشبہ ہم نے سنا ہے
قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾	ایک قرآن بڑا عجیب ﴿١﴾
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ	جو رہنمائی کرتا ہے راہِ راست کی طرف
فَأَمَّا بِهِ	اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر
وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾	اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم (اب) اپنے رب کے ساتھ کسی کو ﴿٢﴾
وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبِّنَا	اور یہ کہ بہت اعلیٰ و ارفع ہے شان ہمارے رب کی،
مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾	نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا ﴿٣﴾
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا	اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ
عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾	اللہ کے بارے میں بہت خلافِ حق باتیں ﴿٤﴾
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ	اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾	اللہ کے بارے میں جھوٹ ﴿٥﴾
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ	اور یہ کہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ	جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾	اس طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور ﴿٦﴾

اور یہ کہ وہ بھی یہی گمان رکھتے تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ

کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا (مرنے کے بعد) اللہ کسی کو ⑥

أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ⑥

اور ہم نے ٹھوٹا آسمان کو تو یا یا ہم نے اسے

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا

کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط پہرے داؤں سے اور شعلوں سے ⑦

مُلِيتٌ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ⑦

اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا

سن گن لینے کی جگہوں پر۔ لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے

مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۚ فَمَنْ يَسْمَعِ

اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہابِ ثاقب ⑧

أَلَا يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ⑧

اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ

ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ

بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ

ان کے رب نے راہِ راست دکھانے کا ⑩

رَبُّهُمْ رَشَدًا ⑩

اور یہ کہ ہیں ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ ہم میں سے ہیں

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا

اور طرح کے۔ گویا ہیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ⑪

ذُو نَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ⑪

اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّعْجِزَ اللَّهَ

زمین میں اور نہیں ہر سکتے ہیں اس کو بھاگ کر ⑫

فِي الْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هَرَبًا ⑫

اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت ایمان لے آئے ہم اس پر

وَأَنَّا لَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أُمَّتًا ۖ

سو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اسے ڈرنہ ہوگا

فَمَنْ يُؤْمِنِ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ

کسی قسم کی حق تلفی کا اور نہ ظلم کا ⑬

بِخَسَا وَلَا رَهَقًا ⑬

اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرمانبردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ہیں

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا

حق سے منحرف۔ سو جو فرمانبردار ہوئے

الْقَاسِطُونَ ۚ فَمَنْ أَسَّكَمَ

انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ ⑭

فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ⑭

وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۱۵

اور جو منحرف ہوئے حق سے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن ۱۵

اور (مجھ پر وحی کی گئی ہے، کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ

تو ضرور سیراب کرتے ہم انہیں ڈھیر دل پانی سے ۱۶

لَا سَقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝۱۶

تا کہ آزمائیں ہم انہیں اس طرح۔ اور جو منہ موڑے گا

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ

اپنے رب کی یاد سے، مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں ۱۷

عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝۱۷

اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لہذا نہ پکارو (ان میں،

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

اللہ کے ساتھ کسی اور کو (شریک بنا کر) ۱۸

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝۱۸

اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ

تو تیار ہو گئے یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ۱۹

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝۱۹

ان سے کیسے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي

اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو ۲۰

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝۲۰

ان سے کیسے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ

کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا ۲۱

ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝۲۱

ان سے کیسے ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۝۲۲

اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ ۲۲

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۲۲

(میرا کام نہیں ہے) سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات

إِلَّا بَلَاغًا

اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات۔ اور جو شخص بھی

مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَنْ

نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی

يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

تو یقیناً ہے اس کے لیے جہنم کی آگ،

فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

رہیں گے ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ۲۳

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝۲۳

